

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی  
پریس ریلیز

## 6 جولائی 2019

وزیر اعظم ہند نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کو میڈیکل کالج کے ساتھ اسپتال کے قیام کی یقین دہانی کرائی

عزت مآب وزیر اعظم ہند شری نریندر مودی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر سے ملاقات کے دوران یونیورسٹی میں میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ایک اسپتال کے قیام کے لئے ہر ممکن اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

وزیر اعظم کو تعلیمی اور تحقیقی امور سے متعلق آگاہی کے ساتھ ہی پروفیسر اختر نے آئندہ سال منعقد ہونے والے یونیورسٹی کے صد سالہ جشن کی بابت تفصیلات بتائیں، اور اس کے لئے اسپیشل گرانٹ کی بھی گزارش کی۔ وزیر اعظم نے اس معاملہ پر مثبت انداز میں غور و فکر کا بھروسہ دلایا۔

وزیر اعظم نے جامعہ کے اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی معیار کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حکومت کے تعلیم سے وابستہ مقاصد اور ہدف کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دن دنی رات چوگنی ترقی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جامعہ کے قومی اور بین الاقوامی رینکنگ جو اسے حالیہ دنوں میں ملی ہیں اس سے وہ واقف ہیں۔

وائس چانسلر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ مستقل اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ حکومت کے مقاصد جن میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا اور ایک مضبوط و توانا ملک کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانا ہے جس سے ملک کی تعمیر اور اس کے روح کو تقویت ملے۔

وزیر اعظم نے پروفیسر اختر کی قائدانہ صلاحیت اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو سراہا جس میں تعلیمی اور انتظامی دونوں عملہ میں وہ پروفیشنل قابلیت اور ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں ذمہ داریاں سونپتی ہیں۔

پروفیسر اختر نے وزیر اعظم ہند کو یونیورسٹی کی جانب سے مومنٹو اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ قابل ذکر ہے کہ پروفیسر اختر نے 1 جولائی 2019 کو عالیجناب صدر جمہوریہ ہند شری رام ناتھ کووند جو جامعہ کے وزیٹر بھی ہیں سے ملاقات کی تھی اور ان کے عہد میں جامعہ کی تعلیمی اور تحقیقاتی سرگرمیوں اور اس کی اصلاح کے لئے اٹھائے گئے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے واقف کرایا تھا۔

احمد عظیم  
عوامی تعلقات افسر اور میڈیا کو آرڈینیٹر  
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی